

Doorbell 4

Quick Start

Guide de démarrage rapide

Schnellstartanleitung

Guida rapida

Guía de inicio rápido

Beknopte handleiding

Hurtigstartveiledning

Snabbstartsguide

Pika-aloitusopas

Vejledning til hurtig opsætning

البداية السريعة



QR + FR

ring.com/manuals

Download the full manual online.

Téléchargez le manuel complet en ligne.

Laden Sie das vollständige Handbuch online herunter.

Scarica il manuale completo online.

Descarga el manual completo en línea.

Download de volledige handleiding online.

Last ned hele håndboken på nett.

Ladda ner hela handboken online.

Lataa kokonainen opas verkosta.


Download hele vejledningen online.

يمكنك تحميل دليل المستخدم الكامل عبر الإنترنت.

2

Included installation hardware
معدات التركيب المتضمنة

3




4



5




6



7





8




8-24V AC, 50/60Hz, 40VA max


Warning: Turn off the power to your existing doorbell first. / **Avertissement:** Mettez d'abord votre sonnette existante hors tension. / **Warnung:** Schalten Sie zuerst die Stromzufuhr zu Ihrer bestehenden Türklingel aus. / **Attenzione:** Innanzitutto, disattiva l'alimentazione del citofono in uso. / **Advertencia:** Desconecta la alimentación del timbre primero. / **Let op:** Schakel eerst je oude deurbel spanningsvrij. / **Advarsel:** Slå av den eksisterende ringeklokken først. / **Varning:** Stäng först av strömmen till din befintliga dörrklocka. / **Varoitus:** Katkaise ensin virta nykyisestä ovikellosta. / **Advarsel:** Sluk for strømmen til din eksisterende dørklokke først. / تحذير: قم بفصل الكهرباء عن جرس الباب القائم أولاً.

9





10









If wiring to an existing doorbell
 Si raccordé à une sonnette existante
 Bei Verbindung mit einer bestehenden Türklingel
 Se collegato a citofono esistente
 Si se cablea a un timbre existente
 Bij aansluiting op bestaande deurbelbedrading
 Dersom man kobler til en eksisterende ringeklokke
 Vid anslutning till dörrklocka
 Johdotus nykyiseen ovikelloon
 Hvis ledningerne trækkes til en eksisterende dørklokke
 للتوصيل بحرس باب قائم بالفعل




10a
Phillips Head Screwdriver required
 Tournevis cruciforme requis
 Kreuzschlitz-Schraubendreher erforderlich
 È necessario un cacciavite Phillips
 Se requiere destornillador Phillips
 Kruikschroevendraaier benodigd
 Phillips skruttrekker påkrævd
 Phillips stjärnskruvmejsel krävs
 Tarvitaan ristipääruuvimeisseli
 Stjerneskrueetrækker påkrævet
 يتطلب وجود مفك برأس فيليبس



If wiring to an existing doorbell
 Si raccordé à une sonnette existante
 Bei Verbindung mit einer bestehenden Türklingel
 Se collegato a citofono esistente
 Si se cablea a un timbre existente
 Bij aansluiting op bestaande deurbelbedrading
 Dersom man kobler til en eksisterende ringeklokke
 Vid anslutning till dörrklocka
 Johdotus nykyiseen ovikelloon
 Hvis ledningerne trækkes til en eksisterende dørklokke
 للتوصيل بحرس باب قائم بالفعل



13
Secure the faceplate
CAUTION! If you use the wrong screws to secure the faceplate, you could damage the battery during installation, create a fire hazard, and be seriously injured.
 DO NOT USE any screw other than the included short security screws when securing the faceplate. Lastly, use the included screwdriver to insert and tighten one of the Security Screws from Bag B.



Fixez la façade
⚠ ATTENTION ! Si vous utilisez les mauvaises vis pour fixer la façade, vous risquez d'endommager la batterie pendant l'installation, de provoquer un incendie et d'être gravement blessé. N'UTILISEZ PAS de vis autres que les vis de sécurité courtes fournies pour fixer la façade. Enfin, utilisez le tournevis fourni pour insérer et serrer l'une des vis de sécurité contenue dans le sac B.

Feste frontplaten
⚠ FORSIKTIG! Hvis du bruker feil skruer til å feste frontplaten, kan det skade batteriet under monteringen eller føre til brannskade eller alvorlige skader. IKKE BRUK andre skruer enn de medfølgende, korte sikkerhetsskruene når du fester frontplaten. I tillegg må du bruke den medfølgende skrutrekkeren til å sette inn og stramme en av sikkerhetsskruene fra pose B.

Sätt fast frontpanelen
⚠ OBS! Om du använder fel skruvar för att sätta fast frontpanelen kan du skada batteriet under installationen, riskera brand och skadas allvarligt. ANVÄND INTE några andra skruvar än de medföljande korta säkerhetsskruvarna när du fäster frontpanelen. Använd den medföljande skruvmejseln för att sätta i och dra åt en av säkerhetsskruvarna från påse B.

Etulevyn kiinnittäminen
⚠ HUOMIO! Jos käytät etulevyn kiinnittämiseen vääräi ruuveja, saatat vahingoittaa akkua asennuksen aikana, aiheuttaa tulipalon vaaran tai loukkaantua vakavasti. ÄLÄ KÄYTÄ etulevyn kiinnityksessä mitään muita ruuveja kuin mukana toimitettuja lyhyitä turvaruuveja. Kiinnitä lopuksi yksi turvaruuvi pussista B mukana toimitetulla ruuvitaltalla ja kiristä se paikalleen.

Fastgør frontpladen
⚠ FORSIKTIG! Hvis du bruger de forkerte skruer til at fastgøre frontpladen med, kan du beskadige batteriet under installationen, forårsage en brand og komme alvorligt til skade. BRUG IKKE andre skruer end de medfølgende korte sikkerhedsskruer, når du fastgør frontpladen. Til sidst skal du bruge den medfølgende skruetrækker til at indsætte og spænde en af sikkerhedsskruerne fra pose B.

تأكد من تثبيت لوحة الواجهة
⚠ تحذيرا إذا استخدمت المسامير غير المناسبة لتثبيت لوحة الواجهة قد تتسبب في إتقاع اضرار بالبطارية خلال عملية التركيب وقد تتسبب في حدوث حريق أو إصابات خطيرة. لا تستخدم أي مسامير بدلاً من مسامير الأمان القصيرة المتضمنة عند تثبيت لوحة الواجهة. وأخيرا، استخدم المفك المتضمن لإدخال وتثبيت أحد مسامير الأمان من الكيس B.

BEVESTIGING VAN HET VOORPANEEL
⚠ LET OP! Als je de verkeerde schroeven gebruikt om het voorpaneel te bevestigen, kun je de batterij tijdens de installatie beschadigen, brandgevaar veroorzaken, en ernstig letsel oplopen.

GEbruik GEEN andere schroeven dan de meegeleverde korte veiligheidschroeven om het voorpaneel te bevestigen. Gebruik de meegeleverde schroevendraaier om een van de veiligheidschroeven uit zakje B aan te draaien.

ring.com/help
 UAE: 80001 84084
 Saudi Arabia: 80081 47867
 South Africa: 0800993700
 Kuwait: 96522069085
 US: 1 800 656 1918
 Canada: 1 855 300 7289
 Worldwide: +1 310 929 7085

Singel 542
 1017 AZ Amsterdam
 The Netherlands

© 2021 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.
 22-003285-01